

جشنِ دستارِ فضیلت

تیری چادر میں پایا ہم نے عکس گم شدہ اپنا
تیری چوکھٹ پہ پہنا ہم نے اپنا تاج فاروقی

بتاریخ
۱۸/ شعبان المعظم ۱۴۴۷ھ
۷/ فروری ۲۰۲۶ء بروز سنیچر

ختم بخاری بزبان فیض ترجمان



بقیۃ السلف، حجۃ الخلف، ممتاز الفقہاء والمحدثین، جانشین حضور صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا
مفتی الشاہ
ضیاء المصطفیٰ قادری
صاحب قبلہ مدظلہ العالی
سجادہ نشین خانقاہ قادریہ
گھوسی، ضلع مئو

مولانا نور الہدیٰ فاروقی سلمہ العظیم المقسط

کمرہ نمبر ۴۹

مولانا آفتاب عالم فاروقی سلمہ العظیم المقسط

پیش کردہ جناب احمد رضا صاحب

پیش کردہ محمد حسان رضا سلمہ

مادر علمی

مدرسہ اہلسنت
جامعہ فاروقیہ
ریوڑی تالاب بنارس (یوپی)

Contact No 7869661423

الداعی جناب محمد فاروق انصاری صاحب
بمقام وجے نگر بلرامپور چھتیس گڑھ

Contact No 9931533387

الداعی جناب محمد تصور انصاری صاحب
بمقام علی پور چھترپور پلاموں جھارکھنڈ

GraphicsNurulHodaFarooqi